





Hold deg hjemme!  
Stay home!  
Guriga ha ka bixin!  
Przebywaj w domu!  
گھر میں رہیں!  
ابق في المنزل!  
尽量居家不出门!  
Evde kalınız!



Vask hendene ofte!  
Wash your hands often!  
Mar walba iska dhaq gacmaha!  
Myj często ręce!  
اکثر ہاتھ دھوتے رہیں!  
أغسل يديك كثيرًا!  
勤洗手!  
Ellerinizi sık sık yıkayınız!



Maksimalt grupper på 5 personer sammen, og minimum avstand på 2 meter til hverandre.  
No more than 5 people in a social gathering, and minimum of 2 metres apart.  
Ugu badnaan waxaa kulmi kara si wadajir ah kooxaha illaa 5 qof, isla kulankaasi waa inay isu jirsadaan ugu yaraan masaafu dhan 2 mitir midba midka kale.  
Maksymalnie grupy 5 osobowe razem i minimalnie 2 metry odstepu od siebie.  
ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 افراد کا گروپ اور کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں  
الحد الأقصى للتجمعات 5 أشخاص مع الحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن مترين بين شخص وآخر  
最多只能 5 人聚集在一起  
且彼此之间至少需保持 2 米以上距离  
5 kişiyi aşacak toplu buluşmalardan kaçınınız, ve aranızda en az 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyunuz.



Beskytt eldre og syke mot smitte!  
Protect the elderly and ill from infection!  
Ka ilaali dadka waawayn iyo kuwa jirrani in ay xanuunka kaa qaadaan!  
Chroń starszych i chorych przed zakażeniem!  
معمر اور بیمار لوگوں کو انفیکشن سے بچائیں!  
احمی المسنين والمرضى من الإصابة بالعدوى!  
保护老弱病残免受感染!  
Bulaşma riskine karşı yaşlı ve hastaları koruyunuz!